

تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: M. Maillot; Sarah S.

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔




آخر دراو مصرک وزیرِ عظم یوسفؑ یہ دنیا
تراوتہ۔ تمام مصری سپدی امہ خاندان
کس دوکھس منز شامل۔ خداین بچوو
عبرانی زاژ ہندس یوسفؑ سنڈی دسی

مصر کوکالہ نش۔
سہ اوس دانا تہ
سارنی ہند ٹوٹھ
رہنما۔ آخر دراو یتہ
قرین تر یہ ہتہ وہری۔



يوسفى لوكه يعنى عبرانى بننيه مصرس منز اكه طاقت ور نسل - نوس فرعونس
ژاو اندرى خوف زيم عبرانى ما ووتهن كنه وز تمس بته - اوے بناون يم سارى
عبرانى پنى غلام -



فرعونن گری یمن عبرانین پیٹھ واریاہ ستم ئمی گری یم
مجبور بڈی بڈی شہر تعمیر کرنہ باپتھ۔ مگر اُمی کوتاہ
تہ ظلم و جبر کور یمن ہپٹھ، عبرانی رودی نوان تہ بڈان۔




اکہ دوہہ ووت اکہ خوفناک حکم فرعون سنڊ پپہ۔ "ساری نوزاد عبرانی لڑکہ گژهن
دریا مے نیلس پهاٹونہ ینی۔ "ظالم فرعون اوس عبرانی آبادی کم کړن یژهان۔ سہ ووت
دوڊ شری مارنس پٹہ تہ۔



"وونی کیاہ کرو اسی؟" یہ گر آسہ ہرے انتہایی پریشان تہ ڈیہ گوٹت۔ یمو کور
فأصلہ پُن نوزادِ شُر دریاہ نیلس تراونک مگر اُکس نرم گرم تہ اُبس نہ پھٹن واجنہ
کانیو ٹوکرِ منز۔



یہ انتہائی موئل چیز بیٹھ روز یہ ٹوکر ہنز ناو نرکانیو منزی وِران۔ اُمس نو
زادس آخر بنہ کیاہ؟



دري يابو بٽهي بٽهي روز اُمس نوزاد سنز بينه اته نرڪانيو منزى آرام
سان وِران ٽوڪر ٿر ٿان۔



وُچھان وُچھان آیہ فرعون ستر کور تہ تسسزِ ژونزِ دری
یاوس پیٹھ سران کرنہ۔ ٹوکر اُس وونی ننہ وانہ وِران۔ کیاہ
پتہ یمہ کورِ ما نیرن اوکُن وُچھنہ بغارِے۔



"او ہو! ٹوکر۔ ہوکیاہ نرکانپن نش۔
خبر اٹھ منز کیاہ آسہ؟" فرعون
سنز کور دیوت ژونزن حکم۔ یہ
ٹوکر بوٹھ کھالنگ۔ ییلہ امہ یہ
ٹوکر کھوج، اٹھ منز نوزاد بچن
لوگ ودن۔ "یہ چھ اکھ عبرانی
بچہ" شہزاد وون حارتہ سان۔



"لوگٹ موگٹ بچور، یہ کوتاہ نند بون۔" فرعون سنز کور کر اُمس بچس سیتی بالیغ
کور ہند انداز کتہ۔ تمہ ما آسہ ہس اکھتے یتہ وونمت پنے مصری زبانی منز۔
اچھو۔ مچھو۔ چوں کومس (یتہ گنی ماجہ
ونان چھے)۔



خداین آسہ ہے اُمس نوزاد سنزِ پیئہ غارِ معمولی عقل تہ بخشمِژ۔ سو آہ دوران دوران
فرعون سنزِ کورِ نیش۔ "بہ اننا کانہہ عبرائی زنی ژھاندتہ امس بچس چانہ باپتہ رچھنہ
خاطر۔" "نیر اُنن" اورِ آس جواب۔ تہند کیاہ
خیال چہ یہ عبرائی کور کس گئیہ انہ۔



"موجی! وڑھ کر وڑھ۔" شاید اوسنہ اُمس کورِ تفصیل باونگِ وقتے۔ دوشوے ماجہ
کورِ درایہ بون کُن پدی وتہ کُنی دَو۔



دری یاوس پېټه وَاَتِه پلنوو یمن فرعون سنز کور یه نوزاد یمن گن - "رچھوون یه میانہ
باپتہ - بہ دمو اتہ ماوضہ تہ - اُمس وئی زیو موسیٰ" موسیٰ ما آسن مصری زبانی منز

آبہ گو برس
ونان -



یتھ پائھی ووت موسیٰ بیہ پنس مائس ماجہ نش۔ پن گر۔


تمو ہیچھنوو سہ خدا تہ عبرانی لوکن ہند لول تہ محبت۔

ولی ولی واتہ یہ فرعون سنز کور نش۔ خدا، یمی امسند زو

روچھ، اوسن موسیٰ سند

ینہ والہ وقتہ باپتہ اکھ عظیم

منصوبہ تشکیل دیوتمت۔



دُری یاوک شہزادِ

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

واپسی 2

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

